

1st Senior Officials' India-France-Australia Trilateral Dialogue

September 09, 2020

ہندوستان- فرانس- آسٹریلیا کے سینئر عہدیداران کا پہلا سہ فریقی ڈائلاگ

ستمبر 09، 2020

ہندوستان- فرانس- آسٹریلیا کا پہلا سہ فریقی ڈائلاگ ورچوئل طریقے سے 9 ستمبر 2020 کو منعقد ہوا۔ اس میٹنگ کی صدارت ہندوستان کے خارجہ سکرٹری ہرش وردھن شرنگلا، اور فرانسیسی وزارت برائے یورپ اور امور خارجہ کے سکرٹری جنرل جناب فرانسوا ڈیلٹری، اور آسٹریلیائی محکمہ برائے امور خارجہ اور تجارت کے سکرٹری محترمہ فرانسس ایڈمنس نے مشترکہ طور پر کی۔ اس ڈائلاگ کا مرکز انڈو پیسیفک خطے میں تعاون کو بڑھانا تھا۔

بات چیت کے دوران، تینوں فریقوں نے انڈو پیسیفک خطے میں معاشی اور جیوسٹریٹجک چیلنجوں اور تعاون، خاص طور پر کووڈ 19 وبائی مرض اور اس سے نپٹنے کے لئے گھریلو رسپانس کے تناظر میں تبادلہ خیال کیا۔ سہ فریقی اور علاقائی سطح پر عملی تعاون کے لئے میرین گلوبل کامنز اور ممکنہ شعبوں میں بشمول آسیان، آئی او آر اے اور بحر ہند کمیشن جیسی علاقائی تنظیموں کے ذریعے باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تینوں ممالک کے درمیان علاقائی اور عالمی کثیر الجہتی اداروں میں ترجیحات، چیلنجوں اور رجحانات پر بھی تبادلہ خیال ہوا، جس میں کثیر الجہتی کو مضبوط بنانے اور اصلاح کرنے کے بہترین طریقے بھی شامل ہیں۔

یہ نتیجہ خیز ملاقات ان باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے مقصد سے منعقد ہوئی، جسے تینوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ملاقات کا مقصد پر امن، محفوظ، خوشحال اور قواعد پر مبنی انڈو پیسیفک خطے کو یقینی بنانے کے لئے اپنی اپنی طاقت کو مربوط کرنا بھی تھا۔ تینوں فریقین نے ڈائلاگ کو سالانہ بنیاد پر منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔

نئی دہلی

ستمبر 09، 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.